

خبرنامہ

ادارہ

☆ قاموس القرآن الکریم، موسسۃ الکویت للتقدم العلمی، الکویت۔

عربی زبان میں اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے جس میں تشریحی، تاریخی، اثری جغرافیائی، نباتاتی معلومات تصویروں اور نقشوں کی مدد سے ترتیب دی گئی ہے۔ اس کی تیاری ڈاکٹر عبداللہ یوسف الغنیم، ڈاکٹر خالد المدکور، ڈاکٹر عبدالستار ابو غده اور مختلف علوم و فنون کے ماہر اساتذہ کی نگرانی میں انجام پائی ہے۔ انگریزی اور فرانسیسی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے۔

☆ المدخل اور معجم النبات لقاموس القرآن الکریم کا انگریزی اور فرانسیسی زبانوں میں ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔ المدخل میں سات بنیادی باب ہیں اور معجم میں قرآن شریف میں مذکور نباتات کا بیان ہے۔

☆ مدخل القرآن الکریم سے متعلق درج ذیل تین کتابیں عربی زبان میں شائع ہو چکی ہیں۔
(۱) ڈاکٹر محمد عبدالہادی البوریدہ کی مضمون القرآن الکریم فی قضایا الایمان والنبوة والاخلاق والکون۔

(۲) ڈاکٹر عجیل جاسم النشمی کی طرق استنباط الاحکام من القرآن الکریم۔

(۳) ڈاکٹر احمد مختار عمر کی لغۃ القرآن دراستہ توثیقیہ نقدیہ۔

(ماہنامہ الفرقان، صفاۃ، الکویت، شمارہ ۷۷، اگست ۱۹۹۷ء، ص ۱۲)

انڈونیشی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ

قاہرہ۔ جامعہ الازہر کے ریکٹر ڈاکٹر محمد سید طحطاوی نے کہا ہے کہ الازہر نے قرآن کریم کے انڈونیشی زبان میں ترجمہ کی منظوری دے دی ہے۔ انھوں نے بتایا کہ یہ ترجمہ اسلامی تعلیمات کے ماہر ڈاکٹر عمر باکری نے کیا ہے اور سترہویں صدی کے بعد سے انڈونیشی زبان میں قرآن کریم کے تراجم نہ ہوئے تھے۔ انھوں نے عالم اسلامی کی طرف